

# کتاب سعاد

بتحشیہ

مولانا قاضی سجاد حسین

مکتبہ المدینہ

کراچی - پاکستان

# کتاب سجدہ

بتحشیہ

قاضی محمد حسین



کتاب کا نام : **کریختن**

مؤلف : **قاضی نجارین**

تعداد صفحات : ۲۴

قیمت برائے قارئین = ۱۵/ روپے

سن اشاعت : ۱۴۳۱ھ / ۲۰۱۰ء

ناشر : **مکتبہ التبلیغیہ**

چوہدری محمد علی چیر شہیل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

Z-3، اورینٹل بنگلوں، گلستان جوہر، کراچی، پاکستان

فون نمبر : +92-21-34541739 +92-21-37740738

فیکس نمبر : +92-21-34023113

ویب سائٹ : [www.ibnabbasaisha.edu.pk](http://www.ibnabbasaisha.edu.pk)

ای میل : [al-bushra@cyber.net.pk](mailto:al-bushra@cyber.net.pk)

ملنے کا پتہ : **مکتبہ الشریعی، کراچی۔ 2196170-321-92+**

**مکتبہ الحرمین، اردو بازار، لاہور۔ 4399313-321-92+**

**المصاح، ۱۶، اردو بازار، لاہور۔ 37223210, 37124656-42-92+**

**بلک لیب، سٹی پلازہ کانگڑو، راولپنڈی۔ 5557926, 5773341-51-92+**

**دار الإحلاص، نزد قصبہ خروانی بازار، پشاور۔ 2567539-91-92+**

اور تمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لِحَمْدِهِ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

### مناجات بہ درگاہِ مجیب الدعوات

کریمؐ پہ بخشائے ہر حالِ ما کہ ہستم اسیرِ کندِ ہوا  
 ندامتِ غیر از توؐ فریادرسِ توفیٰ عاصیاں را خطا بخش و بس  
 نگہدارِ ما رازِ راہِ خطا خطا در گزار و صوابم نما

### در شائے پیغمبر ﷺ

زباں تابو دے در وہاں جائے گیر شائے محمد بود دل پذیر  
 حبیبِ خدا اشرفِ انبیا کہ عرشِ مجیدش بود مشکا  
 سوارِ جہاں گیرِ بکراں براق کہ پہ گذشت از قصرِ نیلی رواق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱. کریمؐ پہ بخشائے بخشش فرما اسیرِ قیدی۔ کندِ چھان۔ ہوا خواہش نفسانی۔

۲. توفیٰ یعنی کریم۔ فریادرسِ فریاد کو بخیننے والا۔ عاصیاں عاصی کی جمع۔ گناہ گار۔ خطا بخش خطا کو معاف کرنے والا۔  
 بس یعنی صرف توفیٰ معاف کرنے والا ہے۔

۳. نگہدارِ چہارہ راست۔ در گزار معاف کر دے۔ صواب درست بات۔ نما دکھا۔

۴. تابو وہاں تک۔ وہاں منہ۔ شاعرِ غریب۔ دل پذیر: دل بہند۔

۵. حبیبِ پیارا۔ انبیا نبی کی جمع۔ مجید بزرگ۔ مشکا تکیہ گاہ

۶. سوارِ جہاں گیر عالم کو فتح کرنے والا سوار۔ بکراں سرخ رنگ کا گھوڑا جسکی ایال اور دم سفید ہو۔ براق وہ سواری

جس پر آنحضرت ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ قصر محل۔ رواق چھو، چھت۔ نیلی رواق یعنی آسمان۔

## خطاب پہ نفس

چہل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی گشت  
 ہمہ دے با ہوا و ہوس ساختی دے با مصالح نہ پرواختی  
 مکن بکلیہ بر عمر ناپاکدار مباحش ایمن از بازی روزگار

## در مدح کرم

دلا ہر کہ بہباد خوان کرم بخد نام دار جہان کرم  
 کرم نام دار جہانت کند کرم کام کار امانت کند  
 ورانے کرم در جہاں کار نیست وزیں گرم تر بیچ بازار نیست  
 کرم مایہ ک شادمانی بود کرم حاصل زندگانی بود  
 دل عالمے از کرم تازہ دار جہاں را ز بخشش پر آوازہ دار  
 ہمہ وقت شو در کرم مستقیم کہ ہست آفرینندہ جاں کریم

۱۔ چہل چالیس۔ عزیز قابل قدر عمر۔ حال حالت۔ طفلی بچپن۔

۲۔ ہمہ تمام۔ دے ایک سانس۔ مصالح مصالحت کی جمع، بھلائی۔

۳۔ مکن ذکر بکلیہ بھروسہ۔ ایمن مطمئن۔ بازی کھیل۔ روزگار زمانہ۔

۴۔ مدح تعریف۔ کرم بخشش۔ دلا اسدول۔ خوان دست خوان۔ نام دار مشہور۔

۵۔ جہانت یعنی تر اور جہاں۔ کام کار کامیاب۔

۶۔ دارہ سواد کار کام۔ گرم تر کسی چیز کی گرم پزاری سے مراد اس کا چالو ہونا ہے۔

۷۔ مایہ سرمایہ۔ شادمانی خوشی۔ حاصل خاصہ۔

۸۔ عالم جہاں۔ کرم بخشش۔ آوازہ مشہرت۔

۹۔ مستقیم تجارت قدم۔ آفرینندہ ایجاد کرنے والا۔

## در وصف سخاوت

سخاوت کند نیک بخت ل اختیار  
کہ مرد از سخاوت شود بختیار  
بہ لطف ل و سخاوت جہانگیر باش  
در اقلیم لطف و سخا میر باش  
سخاوت بود کار صاحب دلاں ل  
سخاوت بود پیشہ مقبلاں  
سخاوت مس ل عیب را کیماست  
سخاوت ہمہ دردہا را دواست  
مشو ل تا تو اس از سخاوت بری  
کہ گوئے بھی از سخاوت بری

## در خدمت بخیل

اگر چرخ ل گردو بکام بخیل  
در اقبال باشد غلام بخیل  
وگر در کشف ل کج قاروں بود  
وگر تابش ربع مسکوں بود  
نیرزد ل بخیل آنکہ نامش زری  
وگر روزگارش کند چاکری

ل بخت نصیب۔ بختیار نصیب۔ در۔

ل لطف مہربانی۔ اہم ملک۔ میر سردار۔

ل صاحب دلاں نیک دل لوگ۔ پیشہ حادت۔ مقبلاں نصیب۔ در لوگ۔

ل مس تابا۔ کیا وہ چیز جس کو ڈالنے سے تابا سونا بن جاتا ہے۔ درد با درد کی توج۔

ل مشو نہ ہو۔ تا تو اس جہ تک ہو سکے۔ گوئے گیند۔ بھی عمدگی۔

ل یعنی اگر آسمان موافق مرد بخیل گردش نہاید۔ چرخ آسمان۔ کام مقصد۔ در اگر۔ اقبال فتح مندی۔ غلام نوکر۔

ل کشف۔ اس کی تھیلی۔ کج۔ خزانہ۔ قاروں مشہور مال دار آدمی تھا۔ تابع تابع دار۔ ربع مسکوں زمین کا وہ حصہ

جس پر دنیا آباد ہے۔ زمین کے ٹخنہ ختنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں صرف ایک چوتھائی پر پوری دنیا آباد ہے۔

ل نیرزد اس قابل نہیں ہے۔ نامش بری تو اس کا نام بھی لے۔ روزگار زمانہ۔ چاکری نوکری۔

مکن التفاتے ۱۔ بہمال بخیل  
 بخیل ارے ۲۔ بود زاہد بحر و بر  
 بخیل ارچے ۳۔ باشد تو نگر بہمال  
 خیاں ز ۴۔ اموال بر می خورند  
 مہر نام مال و منال بخیل  
 بہشتی نباشد چہ حکم خبر  
 چہ خواری چو مفلس خورد گوشال  
 غنیاں غم سیم و زر می خورند

### درصفتِ تواضع

دلگیر تواضع ۱۔ کنی اختیار  
 تواضع زیادت کند چاہے ۲۔ را  
 تواضع بود مایہ دوستی  
 تواضع کند مرد را سرفراز ۳۔  
 تواضع کند ہر کہ بہت آدمی  
 شود خلق دنیا ترا دوست دار  
 کہ از مہر پرتو بود ماہ را  
 کہ عالی ۴۔ بود پایہ دوستی  
 تواضع بود سروراں را طراز  
 نہ زبہد ز مردم ۵۔ چہ جز مردی

۱۔ التفات توجہ منال آمدنی کی جگہ چاہیو اور غیرہ۔

۲۔ ار اگر زاہد پر بیزار۔ بحر سمندر۔ بر نقلی۔ خبر یعنی حدیث شریف میں ہے کہ بخیل بہشت کی خوشبو تک بھی نہ سونگے سکے گا۔

۳۔ ارچے اگرچہ۔ تو نگر مال دار۔ خواری ذلت۔ گوشال سزا۔

۴۔ از۔ اموال مال کی جمع۔ بر بھل۔ سیم چاندی۔ زر سونا۔

۵۔ تواضع انکساری۔ خلق مخلوق۔ دوست دار دوستی کرنے والا۔

۶۔ چاہ مرچ۔ مہر سورج۔ پرتو سایہ۔ ماہ چاند، یعنی جس طرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح تواضع سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ عالی یعنی دوستی بڑی پیچ ہے۔

۸۔ سرفراز سر بلند۔ سروراں سرور کی جمع سردار۔ طراز نقش و نگار۔

۹۔ مردم ایک اور بہت سے انسان۔ مردی انسانیت۔

تواضع کند ۱۔ ہوشمند گزین  
 تواضع بود حرمت ۲۔ افزائے تو  
 تواضع کلید ۳۔ در بخت ست  
 کسے را کہ گردن کشی ۴۔ در سر ست  
 کسے را کہ عادت تواضع بود  
 تواضع عزیزت ۵۔ کند در جہاں  
 تواضع مدار از خلایق ۶۔ در بلیغ  
 تواضع ز گردن فرازاں ۷۔ نکوست

نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین  
 کند در بہشت بریں جائے تو  
 سرافرازی و جاہ را زینت ست  
 تواضع ازو یافتن خوش تر ست  
 ز جاہ و جلالش ۸۔ تمتع بود  
 گرمای شوی پیش دلہا چو جاں  
 کہ گردن ازاں بر کشی ہجو تیغ  
 گداگر تواضع کند خوئے او ست

### درندمت تکبر

تکبر مکن ز نہار اے پر کہ روزے ز دستش درائی بسر  
 تکبر ز دانا ۱۔ بود ناپسند غریب آید این معنی از ہوشمند

۱۔ تواضع کند: یعنی سبک محل منہ تواضع کرتا ہے۔ پر میوہ بچل دار، یعنی جو بھاری بلکہ کم ہیں وہ چھکنے ہیں۔

۲۔ حرمت عزت۔ بریں: برتر، بلند۔ جاہک۔

۳۔ کلید چابی۔ در: دروازہ۔ سرافرازی: سربلندی۔ جاہ مرتب۔

۴۔ گردن کشی: بزدلی۔ خوش تر: بہت اچھا۔

۵۔ جلال: بزرگی۔ تمتع: طمع اندوزی۔

۶۔ مزاج: باعزت۔ دل پز: یعنی لوگوں کے دل۔ جان: جو سب کو بچا رہی ہے۔

۷۔ خلایق: مخلوق کی جمع مخلوق۔ در بلیغ: یعنی تواضع کرنا نہ چھوڑ۔

۸۔ گردن فراز: سربلند۔ خوئے: عادت۔

۹۔ درندمت: برائی۔ نہ ہار: ہرگز۔ ز دستش: یعنی تکبر کے ہاتھ سے۔ درائی: ہر جس کے دل کرے گا۔

۱۰۔ دانا: عقل مند۔ غریب: اچھی۔ این: یعنی تکبر۔



تکبر بود عادت جاہلان  
تکبر نباید ز صاحب دلاں  
تکبر عزازیلؑ را خوار کرد  
بزدلان لعنت گرفتار کرد  
کے را کہ خصلت تکبر بود  
سرش پر غرور سے از تصور بود  
تکبر بود مایہ مدبریؑ  
تکبر بود اصل بد گوہری  
چودانیؑ تکبر چرا سے کنی  
خطا می کنی و خطا می کنی

### در فضیلت علم

نبی آدمؑ از علم یا بد کمال  
نہ از شہمت و جاہ و مال  
چو شمع از پےؑ علم باید گداخت  
کہ بے علم نتواں خدا را شناخت  
خرد مندؑ باشد طلب گار علم  
کہ گرمست پیوست بازار علم  
کے را کہ شد در ازلؑ بختیار  
طلب کردن علم شد بر تو فرضؑ  
برو دامن علم گیر استوارؑ  
کہ علمت رساند مدار القرار

ع غرور دمکا۔ تصور خیال۔

ع عزازیل شیطان۔ ذمیان قہخان۔

ع چودانی جب تو جاتا ہے۔

ع مدبری بدبختی۔ بدگوہر بداصل۔

ع نبی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان۔ شہمت (ہاکم)۔ دید پ۔

ع پے جیسے۔ باید گداخت آگہلنا چاہیے۔ بے علم جاہل۔

ع خردمند عقل مند۔ گرم ہزاری قدر و قیمت ہونا۔ پیوستہ ہمیشہ۔

ع ازل ابتدا عالم۔ بختیار نصیب ہوا۔

ع فرض دین کے فرائض ادا کرنے کے لیے جس قدر ہم ارکار ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ دگر یعنی پھر علم کی

طلب کے لیے سزا کرنا واجب ہے۔ خوش یعنی طلب علم کے لیے۔ قطع ارض زمین کو قطع کرنا یعنی سزا کرنا۔

ع استوار مشہور۔ دارالقرار ہمیشہ رہنے کا گھر یعنی جنت۔

میا موز جز بے علم مگر عاقلی کہ بے علم بودن بود عاقلی  
ترا بے علم در دین و دنیا تمام کہ کار تو از علم گیرد نظام

### در امتناع از صحبت جاہلان

دلا گر خرد مندی و ہوشیار  
ز جاہل گریندہ چوں تیر باش  
ترا از دہانہ مگر بود یار غار  
اگر خصم ک جان تو عاقل بود  
چو جاہل کے در جہاں خوار ک نیست  
ز جاہل نیاید جز ک افعال بد  
سر انجام جاہل جہنم بود  
سر جاہلان بر سر دار ک ہے  
ز جاہل حذر ک کردن اولی بود

۱۔ جز سوائے۔ علم یعنی علم دین۔ عاقلی: نادانی، جہالت۔

۲۔ ترا یعنی دین و دنیا کے لیے علم کافی ہے۔ نظام: انتظام۔

۳۔ امتناع: باز رہنا۔ دلا: اسے دل۔ خردمند: عقل مند۔ صحبت: ساتھ۔

۴۔ گریندہ: بھاگنے والا۔ آہنہ: لانا ہوا۔ شیر: دودھ۔

۵۔ از دہانہ: سانس کی ایک قسم ہے۔ یار غار: پاساچی۔ غم گسار: غم خوار۔

۶۔ خصم دشمن۔ دوست: دوست۔ دوست: دوست۔

۷۔ جز سوائے۔ افعال: فعل کی جمع۔ کام۔ اقوال: قول کی جمع۔ بات۔

۸۔ کو بہتر۔ عاقبت: انجام۔

۹۔ حذر: پرہیز۔ اولی: بہتر۔ کز: کہ۔ از: کہ۔ ننگ: ذلت۔ عقبی: آخرت۔

## درصفتِ عدل

چو ایزد<sup>۱</sup> ترا این ہمہ کام داو  
 چو عدل ست چہ رایہ<sup>۲</sup> خسروی  
 ترا مملکت<sup>۳</sup> پانڈاری کند  
 چو نوشیروان<sup>۴</sup> عدل کرد اختیار  
 ز تاثیر<sup>۵</sup> عدل ست آرام ملک  
 جہاں را بانصاف آباد دار  
 جہاں را بہ از عدل معمار<sup>۶</sup> نیست  
 ترا زیں پہ<sup>۷</sup> آخر چہ حاصل بود  
 اگر خواهی از نیک سختی نشان  
 رعایت<sup>۸</sup> دروغ از رعیت مدار  
 چرا بر نیاری سر انجام داو  
 چرا عدل را دل نداری قوی  
 اگر معدلت دستپاری کند  
 کتوں نام نیک ست ازو یادگار  
 کہ از عدل حاصل شود کام ملک  
 دل اہل انصاف<sup>۹</sup> را شاد دار  
 کہ بالا تر از معدلت کار نیست  
 کہ نامت شہنشاہ عادل بود  
 در ظلم بندی بر اہل جہاں<sup>۱۰</sup>  
 مراو دل داو خواہاں بر آر

۱۔ ایزد: اللہ تعالیٰ۔ کام: مقصود۔ داو: انصاف۔

۲۔ رایہ: زیب و زینت۔ خسروی: ہاشمیت۔ عدل: انصاف۔

۳۔ مملکت: سلطنت۔ پانڈاری: مضبوطی۔ معدلت: دستپاری۔ عد۔

۴۔ نوشیروان: ایران کا مشہور بادشاہ۔ کتوں: آپ تک۔ یادگار: یاد دلانے والا۔

۵۔ تاثیر: اثر۔

۶۔ اہل: انصاف منصف لوگ۔ شاد: خوش۔

۷۔ معمار: راج۔ بالا: اونچا۔

۸۔ پہ: بچتر۔ چہ: کیا۔ عادل: انصاف کرنے والا۔

۹۔ اہل جہاں: جہاں والے۔

۱۰۔ رعایت: نگہبانی۔ دروغ: ممنوع۔ داوخواہ: فریادی۔

## در خدمتِ ظلم

خرابی ز بیداد بیند جہاں      چو بستان خرم ز بادِ خزاں  
 مدہ رخصتِ ظلم در بیچِ حال      کہ خورشیدِ ملکیت نیابد زوال  
 کسے کاوشِ ظلم زد در جہاں      بر آورد از اہل عالمِ فغاں  
 ستم کشِ گر آہے بر آرد ز دل      زند سوز او شعلہ در آب و گل  
 مکن بر ضعیفان بے چارہ زور      بیندیش آخر ز تنگیِ گور  
 بازارِ مظلومِ مائلِ مہاش      ز دودِ دلِ خلقِ غافلِ مہاش  
 مکن مردمِ آزاری اے ستمِ کھارے      کہ ناکہ رسد بر تو قہرِ خدائے  
 ستم بر ضعیفانِ مسکینِ مکن      کہ ظالمِ بدوزخِ رود بے سخنِ

## در صفتِ قناعت

ولا گر قناعتِ ہدستِ آوری      در اقلیمِ راحتِ کنی سروری  
 اگر تکِ دستی ز سختیِ منال      کہ پیشِ خردِ مندِ بیچِ ست مال

۱۔ خدمتِ برائی۔ بیدادِ ظلم۔ بستانِ باغ۔ خرمِ شاداب۔ بادِ ہوا۔ خزاں اپنی جہز کا موسم۔

۲۔ رخصتِ اجازت۔ خورشیدِ آفتاب۔

۳۔ ستم کشِ مظلوم۔ سوزِ جلن۔ شعلہ پختاری۔ آبِ پانی۔ گلِ مٹی۔

۴۔ چارہ۔ تدبیرِ علاج۔ زورِ ظلم و زیادتی۔ گورِ قبر۔

۵۔ ستمِ سخت۔ قہرِ غضب۔ ستمِ ظلم۔

۶۔ قناعتِ تھوڑے پر مہر کرنا۔ اقلیمِ ملک۔ سروری۔ سرداری۔

۷۔ اگر تکِ دستی اگر تو تکِ دست ہے۔ منالِ ست رو۔ بیچِ ہے قدر

ندارد خرد مند از فقر عار <sup>۱</sup>      کہ باشد نبی راز فقر افتخار  
 غنی را زر و سیم آرایش است <sup>۲</sup>      و لیکن فقیر اندر آسایش است  
 غنی گر نباشی مکن اضطراب <sup>۳</sup>      کہ سلطان نخواهد خراج از خراب  
 قناعت بہر حال اولی تر <sup>۴</sup> است      قناعت کند ہر کہ نیک اختر است  
 ز نور قناعت بر افروز <sup>۵</sup> جاں      اگر داری از نیک بختی نشان

### در مذمت حرص

ایا <sup>۱</sup> مبتلا گشتہ در دام حرص      شدہ مست ولا یعقل از جام حرص  
 مکن عمر ضائع بہ تحصیل <sup>۲</sup> مال      کہ ہم نرخ گوہر نباشد سفال  
 ہر آنکس کہ در بند <sup>۳</sup> حرص اوقاد      دہد خرمن زندگانی بہاد  
 گرفت <sup>۴</sup> کہ اموال قارون تراست      ہمہ نعت ربیع مسکون تراست  
 بخوای شد آخر گرفتار خاک <sup>۵</sup>      چو بے چارگان بادل درد ناک

۱۔ عار ذلت۔ اہجار فقر کہتا۔

۲۔ غنی مال دار۔ آسایش آرام و بے فکری، چون کہ مجلس کو مال کے ضائع ہونے کا گھر نہیں ہوتا۔

۳۔ اضطراب پریشانی۔ سلطان بادشاہ۔ خراج نکس۔ خراب کوزی۔

۴۔ اولی تر بہتر۔ نیک اختر جس شخص پر اچھے ستارے کا سایہ ہو، یعنی خوش نصیب۔

۵۔ افروز روشن۔

۶۔ ایا اسے۔ دام جاں۔ حرص لالچی۔ لا یعقل بے سمجھ۔ جام نکاس۔

۷۔ تحصیل حاصل کرنا۔ ہم نرخ ایک ہی بہاد۔ گوہر موتی۔ سفال مٹی کا برتن۔

۸۔ بند قید۔ خرمن ڈھیر۔ دہد بہاد یعنی برباد کرتا ہے۔

۹۔ گرفتہ میں نے ماہ۔ اموال مال کی جمع۔ ربیع چوتھائی۔ مسکون آباد۔

۱۰۔ گرفتار خاک یعنی مرکز قبر میں جائے گا۔ درد ناک درد والا۔

چرا می گدازی؟ ز سودائے زر  
چرا می کشی محنت از بہر مال  
چنان دادہ دل سے بخشش درم  
چنان عاشق روئے زر سے گشتے  
چنان گشتے صید بہر شکار  
مبادا دل آں فرومایہ سے شاد  
چرا می کشی بار محنت چو خر  
کہ خواہد شدن ناگہاں پانہال سے  
کہ ہستی ز ذوقش ندیم ندیم  
کہ شوریدہ احوال و سرگشتے  
کہ یادت نیاید ز روز شمار  
کہ از بہر دنیا وہد دیں بہاد

### در صفت طاعت و عبادت

کے را کہ اقبال کے باشد غلام  
نشاہد سر از بندگی سے تافتن  
سعادت سے ز طاعت میسر شود  
اگر بندی سے از بہر طاعت میاں  
ز طاعت نہ چہد سے خرو مند سر  
بود میل خاطر بطاعت مدام  
کہ دولت بطاعت تو اس یافتن  
دل از نور طاعت منور شود  
کشاید در دولت جاوداں  
کہ بالائے طاعت نباشد ہنر

۱۔ می گدازی تو بگھٹتا ہے۔ خر گدھا۔  
۲۔ دل دون عاشق ہونا۔ درم۔ ایک پرانا سکہ۔ ندیم ساتھی۔ ندیم شرمندگی۔

۳۔ زر: سونا، مال و دولت۔ شوریدہ احوال: پریشان حال۔ سرگشتہ: حیران۔  
۴۔ چنان: ایسا۔ صید شکار۔ روز شمار: قیامت۔

۵۔ چنان: ایسا۔ صید شکار۔ روز شمار: قیامت۔  
۶۔ فرومایہ کہینے۔ بہاد: بہاد۔

۷۔ اقبال خوش نصیبی۔ غلام نوکر۔ میل: جنکائی۔ خاطر طبیعت۔ مدام: ہمیشہ۔

۸۔ بندگی، عبادت۔ تافتن: سوزنا۔ دولت: یعنی آخرت کی راتیں۔

۹۔ سعادت: نیک بختی۔ میسر: حاصل۔ منور: روشن۔

۱۰۔ بندی کے ساتھ۔ کمر۔ جاوداں: کھٹکی۔

۱۱۔ نہ چہد نہ بچیر۔ گاتو۔

بآب ۱ عبادت وضو تازہ دار  
 نماز از سر صدق بر پائے ۲ دار  
 ز طاعت بود روشنائی ۳ جاں  
 پرستند ۴ آفرینندہ باش  
 اگر حق پرستی کنی اختیار  
 سر از جیب ۵ پرہیز گاری بر ار  
 ز تقویٰ ۶ چراغ رواں بر فروز  
 کسے را کہ از شرع باشد شعار ۷

کہ فردا ز آتش شوی رستگار  
 کہ حاصل کنی دولت پاکدار  
 کہ روشن ز خورشید باشد جہاں  
 در ایوان طاعت نشیندہ باش  
 در اقلیم دولت شوی شہر پار ۸  
 کہ جنت بود جائے پرہیز گار  
 کہ چوں نیک بختاں شوی نیک روز  
 نہ ترسد ز آسیب روز شمار

### در مذمت شیطان

دلا ہر کہ محکوم شیطان بود  
 کسے را کہ شیطان بود پیشوا  
 دلا عزم ۱ عصیاں مکن ز شہار

شب و روز در بند عصیاں ۲ بود  
 کجا باز گردو ۳ براہ خدا  
 کہ رحمت کند بر تو پروردگار

۱ آہ پائی۔ آتش آگ۔ رستگار چھڑکارا پانے والا۔

۲ بر پائے دار قائم کر۔ پاکدار مستقل۔

۳ روشنائی نور۔ کہ جیسے۔ خورشید سورج۔

۴ پرستند دہو چنے والا۔ ایوان تو ایوان خانہ۔ نشینندہ۔ بیٹھے والا۔ ۵ شہر پار بادشاہ۔

۶ تقویٰ پرہیز گاری۔ یعنی پرہیز گاری واپنا لباس بنالے۔

۷ شعاع علامت اور لباس۔ رواں روز۔ فروز روشن کر۔ نیک روز پاک اوقات۔

۸ شہر پار قیامت۔ روز شمار قیامت۔

۹ عصیاں نافرمانی، گناہ۔

۱۰ عزم ارادہ۔ مکن نہ کر۔ پروردگار اللہ۔

۱۱ باز گردو واپس ہو۔ راہ راست۔

ز عصیاں کند ہوشمند احترام <sup>۱</sup> کہ از آب باشد شکر را گداز  
 کند نیک بخت از گنہ اجتناب <sup>۲</sup> کہ پنہاں شود نور مہر از سحاب  
 مکن نفس امارہ <sup>۳</sup> را پیروی کہ ناگہ گرفتار دوزخ شوی  
 اگر بر نہ تابد <sup>۴</sup> ز عصیاں دلت بود اسفل السالمین منزلت  
 مکن خانہ زندگانی خراب <sup>۵</sup> بسیلاب <sup>۶</sup> فعل بد و ناصواب  
 اگر دور باشی ز فسق و فجور <sup>۷</sup> ناشی ز گل زار فردوس دور

### در بیان شراب محبت و عشق

بدہ <sup>۱</sup> ساقیا آب آتش لباس کہ مستی کند اہل دل التماس  
 مئے لعل <sup>۲</sup> در ساغر زر نگار بود روح پرور چو لعل نگار  
 خوشا <sup>۳</sup> آتش شوق ارباب عشق خوشا لذت درد اصحاب عشق  
 بیار <sup>۴</sup> آں شراب چو آب حیات کہ یابد ز بولیش دل از غم نجات

۱۔ احترام پرہیز کرنا۔

۲۔ گنہ گناہ۔ اجتناب بچنا، پرہیز کرنا۔ پنہاں پوشیدہ۔ نور مہر سورج کی روشنی، دھوپ۔ سحاب۔ ابر۔

۳۔ نفس امارہ وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔

۴۔ بر نہ تابد نہ پھرے۔ اسفل السالمین دوزخ کا ٹپچے سے نیچا درجہ۔ منزل نمکات۔

۵۔ سیلاب پانی کا بہاؤ۔ فعل بد برا کام۔ <sup>۶</sup> نوردہ نگاری۔ گل زار باغ۔ فردوس جنت۔

۷۔ بدہ وہ۔ ساقیا اسے پلانے والے۔ آب آتش لباس وہ پانی جو آگ کا لباس پہنے ہوئے ہے یعنی شراب۔

۱۔ مئے لعل۔ سرخ رنگ کی شراب۔ ساغر۔ شراب کا پیالہ۔ زر نگار۔ سونے کے نقش و نگار والا۔ لعل ہونٹ۔

۲۔ خوشا بہت اچھی۔ شوق عشق۔ ارباب رب کی جمع صاحب۔

۳۔ بیار۔ آب حیات زندگی کا پانی۔ مشہور ہے کہ پانی کا ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی پینے کے بعد موت نہیں آتی۔

برائی خوشبو۔



خوش آں دل کہ دار و قمنائے دوست<sup>۱</sup> خوش آں کس کہ در بند سودائے دوست  
 خوش آں دل کہ شیدا ست بر روئے دوست خوش آں دل کہ شد منزلش<sup>۲</sup> کوئے دوست  
 شراب<sup>۳</sup> چو لعل رواں بخش یار خوشا ذوق مستی ز اہل دلاں  
 خوشامے<sup>۴</sup> پرستی ز صاحب دلاں

### درصفت و وفا<sup>۵</sup>

دلا در وفا ہاش ثابت قدم کہ بے سگہ راجح نہا شد درم  
 ز راہ وفا گر نہ پیچی عنان<sup>۶</sup> شوی دوست اندر دل دشمنان  
 گمراہاں<sup>۷</sup> ز کوئے وفا روئے دل کہ در روئے جاناں نہاشی نخل  
 منہ<sup>۸</sup> پائے بیروں ز کوئے وفا کہ از دوستاں می نیرزد جہا  
 جدائی ز احباب کرون خطا<sup>۹</sup> ست برین ز یاراں خلاف وفا ست  
 بود بے وفائی سرشت<sup>۱۰</sup> زاناں میاموز کردار زشت زاناں

۱۔ دوست یعنی اللہ تعالیٰ۔ سوا عشق۔ ۲۔ منزل۔ پناہ۔ کوئے کوچہ۔

۳۔ شراب یعنی وہ شراب بہت اچھی ہے جو معشوق کے ہونٹ کی طرح سرخ ہو۔ صفا صاف۔ روئے نگار معشوق کا چہرہ۔

۴۔ منہ یعنی شراب معرفت۔ صاحب دلاں وہ لوگ جن کے دل میں عشق خدا ہے۔

۵۔ وفا و وفاداری۔ سگہ ضمیر۔ درم یعنی جس دل میں وفا نہ ہو وہ بغیر شہد کا سگہ ہے۔

۶۔ عنان پاک۔

۷۔ گمراہاں گمراہ۔ روئے جاناں محبوب کے رو بہ رو۔ نخل شرمندہ۔

۸۔ منہ نہ کہ۔ می نیرزد مناسب نہیں۔ جہا ظلم۔

۹۔ خطا لفظی۔ برین کاٹا۔

۱۰۔ سرشت طبیعت۔ زاناں عورتیں۔ کردار کام۔ زشت برا۔

## در فضیلت شکر

کے را کہ باشد دل حق شناس      نشاید کہ بندو زبان سپاس  
 نفس ہے جز بشکر خدا بر میار      کہ واجب بود شکر پروردگار  
 ترا مال و نعمت فزاید ہے ز شکر      ترا فتح از در درآید ز شکر  
 اگر شکر حق تا بروز شمار      گزاری نباشد کیے از ہزار ہے  
 ولے، گفتن شکر اولی ترست      کہ اسلام را شکر او زیورست  
 گر از شکر ایزد نہ بندی زبان      بدست ہے آوری دولت جاوداں

## در بیان صبر

ترا گر صبوری ہے شود دستیار      بدست آوری دولت پائدار  
 صبوری بود کار پیغمبراں      نہ چچند زیں روئے دیں پروراں ہے  
 صبوری کشاید در کام جاں      کہ جز صابری نیست ملاح ہے آں  
 صبوری ہے بر آرد مراو دولت      کہ از عالماں حل شود مشکلت

۱۔ شکر یعنی نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی تعریف کرنا۔ حق شناس حق کو پہچاننے والا۔ سپاس شکر۔

۲۔ نفس سانس۔ میار نوا۔

۳۔ فزاید یعنی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ ز شکر شکر کی وجہ سے۔ فتح کام پائی۔

۴۔ کیے کا ہزار ہزاروں حصہ۔ ولے لیکن۔ او یعنی اللہ تعالیٰ۔

۵۔ بدست آوری تو حاصل کر لے گا۔ جاوداں بیکٹی۔ ہے صبوری صبر کرنا۔ دستیار حاصل۔

۶۔ دین پرورد یعنی ملا۔ ہے ملاح کٹی۔

۷۔ صابری صبر۔ بر آرد یعنی پوری کرنے۔ عالماں جانتے والے۔

صہوری کلید در آرزو است کشاکشہء کشور آرزو است  
 صہوری بہر حال اولی بود کہ در ضمن آن چند معنی بود  
 صہوری ترا کامگاری ہے وہ ز رنج و بلا رستگاری وہ  
 صہوری کنی گر ترا دیں بود کہ تقبیل کار شیاطین بود

### درصفت راستی

دلا راستی ہے مگر کنی اختیار شود دولت ہمہم و اختیار  
 نہ چہید سر از راستی ہوشمند کہ از راستی نام گروہ بلند  
 دم کہ از راستی گر زنی صبح وار ز تارکی جہل گیری کنار  
 مزن دم بجز راستی نہ ہمار کہ دارو فضیلت یکنین بر بیار  
 بہ از راستی در جہاں کار نیست کہ در گھبن راستی خار نیست

### در مذمت کذب

کسے را کہ ہاراستی گشت کار کجا روز محشر شود رستگار

۱۔ آرزو ہونا۔ بشارت۔ ۲۔ کنی یعنی صہوری۔ چند معنی یعنی خوبیاں۔

۳۔ کامگاری۔ کامیابی۔ رستگاری۔ چنکارا۔ نہایت۔

۴۔ گر ترا دیں بود یعنی اگر تمہیں دین داری ہے۔ تقبیل۔ جلد بازی۔ شیاطین۔ شیطان کی جمع۔

۵۔ راستی۔ سچائی۔ ہمہم۔ سچی۔ ۶۔ ہوشمند۔ ہوش والا۔

۷۔ دم۔ سانس۔ صبح وار۔ صبح کی طرح، جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ کنار کنارہ۔

۸۔ نہ ہمار۔ ہرگز۔ یکنین۔ داہنا۔ راستہ لگی کہتے ہیں۔ بیار۔ پایاں اور چپ لگی کہتے ہیں۔

۹۔ گھبن۔ شاخ۔ خار کا ٹانہ۔

۱۰۔ ہاراستی۔ جھوٹ۔ محشر۔ قیامت۔ رستگار۔ چنکارا یعنی نہایت حاصل کرنے والا۔

کسے را کہ گردد زبان دروغ ۱  
چراغ دلش را نباشد فروغ  
دروغ آدمی را کند شرمسار ۲  
دروغ آدمی را کند بے وقار  
ز کذاب ۳ گمرد خرد مند عار  
کہ او را نیارد کسے در شمار  
دروغ اے برادر گمرو زہنہار  
کہ کاذب بود خوار ۴ و بے اعتبار  
ز ناراستی نیست کار ہتر ۵  
کزو گم شود نام نیک اے پسر

### در صنعت حق تعالیٰ

نگہ کن بدیں گنبد زر نگار ۱  
کہ سفش بود بے ستوں استوار  
سر پردہ کے چرخ گردندہ میں ۲  
درو شمعہائے فروزندہ میں  
یکے پاسبان ۳ و یکے پادشاہ  
یکے داد خواہ و یکے بانج خواہ  
یکے شادمان ۴ و یکے درد مند  
یکے کامران و یکے مستند  
یکے بانج دار ۵ و یکے تاج دار  
یکے بر حصیر ۶ و یکے بر سر ۷  
یکے در حیر ۸ و یکے در حریر

۱۔ دروغ، جھوٹ۔ فروغ، روشنی، ترقی، بڑھانا۔  
۲۔ شرمسار، شرمندہ۔ بے وقار یعنی بے آبرو۔

۳۔ کذاب، جھوٹا۔ عار، ذلت۔ در شمار کسی گنتی میں ہی نہیں یعنی ذلیل۔

۴۔ خوار، ذلیل۔  
۵۔ ہتر، ہتر۔ کڑو، کڑو۔ گم شود یعنی مٹ جاتا ہے۔

۶۔ صنعت، بنانا۔ گنبد، یعنی آسمان۔ زر، نگار، سونے کا جڑا۔ سٹف، چھت۔ استوار، قائم۔

۷۔ سر پردہ، خیمہ۔ چرخ، آسمان۔ گردندہ، گھومنے والا۔ شیخ، بائے موسم، تہاں یعنی ستارے۔ فروزندہ، روشن کرنا والا۔

۸۔ پاسبان، دربان، چوکیدار۔ دادخواہ، فریادی۔ بانج، نکلس۔

۹۔ شادمان، خوش۔ کامران، کامیاب۔ مستند، حاجتمند۔  
۱۰۔ بانج دار، نکلس دینے والا۔ سرفراز، سربلند۔

۱۱۔ حصیر، لہریا، چٹائی۔ سر، تخت۔ پاس، ٹاٹ۔ حریر، روشنی کپڑا۔

کے بے نوا<sup>۱</sup> و یکے مال دار  
کے در غنا<sup>۲</sup> و یکے در عنا  
کے تن درست و یکے ناتواں<sup>۳</sup>  
کے در صواب<sup>۴</sup> و یکے در خطا  
کے نیک کردار<sup>۵</sup> و نیک اعتقاد  
کے نیک خلق<sup>۶</sup> و یکے تند خوئے  
کے در تنعم<sup>۷</sup> کے یکے در مذاب  
کے در جہان جلالت<sup>۸</sup> امیر  
کے در گلستان<sup>۹</sup> راحت مقیم  
کے را بروں رفت ز اندازہ مال  
کے چوں گل<sup>۱۰</sup> از خرمی خندہ زن  
کے بست از بہر طاعت کمر<sup>۱۱</sup>

۱۔ بے نوا ہے سامان۔ کام گار کامیاب۔

۲۔ غنا ناتواں ہے طاقت۔ سال خوردہ بوزخا۔

۳۔ کردار کام۔ غرق ذہا ہوا۔ بحر سمندر۔

۴۔ خلق مانت۔ تند خوئے سخت۔ بہ مزاج۔ بردہا۔ نرم مزاج۔ جنگ جو لڑاکو۔

۵۔ تنعم نعمتیں حاصل کرنا۔

۶۔ جلالت۔ بڑائی۔ امیر حاکم۔

۷۔ گلستان باغ۔

۸۔ گل۔ بھول۔ خرمی خوشی۔ خندہ ہنسی۔ خاطر، طبیعت۔ حزن رنجیدہ۔

۹۔ کمر بستہ تیار ہونا۔

۱۰۔ غنا مال داری۔ عنا مشقت۔

۱۱۔ صواب درست۔ دنا فریب، بکر، دھوکہ۔

کے راشب و روز مصحف <sup>۱</sup> بدست  
کے بر در شرع مسار <sup>۲</sup> وار  
کے مقبل <sup>۳</sup> و عالم و ہوشیار  
کے غازی <sup>۴</sup> و چابک و پہلواں  
کے کاتب <sup>۵</sup> اہل دیانت ضمیر

کے فختہ در کج سے خانہ مست  
کے در رہ کفر زار دار  
کے مدبر و جاہل و شرمسار  
کے بزدل و ست و ترسندہ جاں  
کے دزد باطن کہ نامش دیر

### در مع امید از مخلوقات

ازیں پس مکن تکلیف <sup>۱</sup> بر روزگار  
مکن تکلیف بر لشکر <sup>۲</sup> بے عدد  
مکن تکلیف بر ملک و جاہ و حشم <sup>۳</sup>  
مکن بد <sup>۴</sup> کہ بد بینی از یار نیک  
بسا <sup>۵</sup> پادشاہان کشور نشان

کہ ناگہ زجانت برآرد دمار  
کہ شاید ز نصرت نیابی مدد  
کہ پیش از تو بود ست و بعد از تو ہم  
نمی روید از حتم بد یار نیک  
بسا پہلوانان کشور ستاں

<sup>۱</sup> مصحف قرآن۔ کج گوش۔ سے خانہ شراب خانہ۔

<sup>۲</sup> مسار کیل۔ زار جنیو، جو کافروں کی علامت ہے۔

<sup>۳</sup> مقبل نصیبہ اللہ۔ مدبر بد نصیب۔

<sup>۴</sup> غازی جہاد کرنے والا۔ چابک: چست۔ ترسندہ ڈر پوک۔

<sup>۵</sup> کاتب لکھنے والا۔ ضمیر دل۔ دزد چور۔ اہر نشی۔

<sup>۶</sup> تکلیف بھروسہ۔ ناگہ اچانک۔ دمار ہلاکت۔

<sup>۷</sup> لشکر بے عدد ان گنت فوج۔ نصرت مدد۔

<sup>۸</sup> حشم نوکر چاکر۔ کہ پیش از تو اٹخ یعنی تھ سے پہلے بھی تھے اور تیرے بعد میں بھی رہیں گے۔

<sup>۹</sup> مکن بد یعنی دوسرے کے ساتھ برائی نہ کر۔ حتم بد گناہ۔ ہار بھل۔

<sup>۱۰</sup> بسا بہت سے۔ کشور ملک۔ ستاں لینے والا۔

بسا شہر مردان شمشیر زن	بسا شہر مردان شمشیر زن	بسا شہر مردان شمشیر زن	بسا شہر مردان شمشیر زن
بسا ماہے رویان شمشاد قد	بسا ماہے رویان شمشاد قد	بسا ماہے رویان شمشاد قد	بسا ماہے رویان شمشاد قد
بسا ماہ رویان نوحاستے	بسا ماہ رویان نوحاستے	بسا ماہ رویان نوحاستے	بسا ماہ رویان نوحاستے
بسا نام دار و بسا کام گار	بسا نام دار و بسا کام گار	بسا نام دار و بسا کام گار	بسا نام دار و بسا کام گار
کہ گردنک چہ اہمن عمر چاک	کہ گردنک چہ اہمن عمر چاک	کہ گردنک چہ اہمن عمر چاک	کہ گردنک چہ اہمن عمر چاک
چنان خرمین عمر شاں شد بباد	چنان خرمین عمر شاں شد بباد	چنان خرمین عمر شاں شد بباد	چنان خرمین عمر شاں شد بباد
منہ دل بریں منزل جاں ستاں	منہ دل بریں منزل جاں ستاں	منہ دل بریں منزل جاں ستاں	منہ دل بریں منزل جاں ستاں
منہ دل بریں کاخ خرم ہوا	منہ دل بریں کاخ خرم ہوا	منہ دل بریں کاخ خرم ہوا	منہ دل بریں کاخ خرم ہوا
ثباتے ندادو جہاں اے سپر	ثباتے ندادو جہاں اے سپر	ثباتے ندادو جہاں اے سپر	ثباتے ندادو جہاں اے سپر
مکن نکیہ بر ملک و فرماں دہی	مکن نکیہ بر ملک و فرماں دہی	مکن نکیہ بر ملک و فرماں دہی	مکن نکیہ بر ملک و فرماں دہی
منہ دل بریں دیر نا پانداو	منہ دل بریں دیر نا پانداو	منہ دل بریں دیر نا پانداو	منہ دل بریں دیر نا پانداو

۱۔ گردان پہلوان۔ لشکر شکن لشکر کو ہرا دینے والا۔ شیر مرد بہادر۔ شمشیر زن تلوار چلانے والا۔

۲۔ ماہود چاند جیسے چہرے والا۔ شمشاد ایک درخت کا نام، جو سرو کی طرح ہوتا ہے۔ خورد شہدہ سورج جیسے رخسار والے۔

۳۔ نوحاستے نوعر۔ نوعر۔ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔

۴۔ سرو قد سرو جیسے قد والے۔ گل ہزار پھول جیسے رخسار والے۔

۵۔ کہ گردنک یہ جواب آگے آئے گا۔ چہ اہمن لباس۔ کشیدہ یعنی مکر خاک میں مل گئے۔

۶۔ خرمین کلیان۔ بہا شدن برباد ہونا،

۷۔ منزل مکان۔ جاں ستاں اپنی لینے والا۔ شاہماں خوش۔

۸۔ کاخ محل۔ خرم تازہ۔

۹۔ ثبات پاسداری۔ بسر نہام۔

۱۰۔ ملک حکومت۔ فرمان یعنی موت کا حکم۔

۱۱۔ دیر مندر یعنی دینا۔ سعدی یعنی شیخ مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیں یہی ہے۔

# مکتبہ الدینی

طبع شدہ

		ترجمین کا ذکر	
علم النحو	علم الصرف (دو جلدیں: عربی)	تفسیر عثمانی	
جمال القرآن	عربی مخلوط المصادر	خطبات الاحکام لمجمعات العام	
تسبیح الہندی	ہزارت النعمین بحل دینیہ مستوف	حصن حصین	
تعلیم العقائد	عربی کا معلم (اول، دوم، سوم)	المحزب الاکظم (مسیحی ترجمہ بحل)	
سیر الصحابیات	نام حق	المحزب الاکظم (مذہبی ترجمہ بحل)	
پندنامہ	کرمیجا	لسان القرآن (اول، دوم، سوم)	
<b>مجلد / کارڈ گور</b>			
مختب احادیث	فضائل اعمال	خصائل نبوی شرح شاہک ترمذی	
اکرام مسلم	مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)	تعلیم الاسلام (مکمل)	
		پیشگی زیور (تین حصہ)	
<b>ذریعہ طبع</b>		<b>ترجمین کا ذکر</b>	
معلم الحجاب	عربی کا معلم (چہارم)	آداب العاشرت	حیات المسلمین
نور صبر	صرف صبر	زاد المسعید	تعلیم الدین
	تیسیر الابواب	روحۃ الادب	جزا مال اعمال
		فضائل حج	الحجاب (بچہ، کزن، عورتوں کے لیے)
		معین الفلسفة	المحزب الاکظم (مسیحی ترجمہ بحل)
		مادی الفلسفة	المحزب الاکظم (مسیحی ترجمہ بحل)
		معین الاصول	مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)
		تیسیر المنطق	عربی زبان کا آسان قاعدہ
		فوائد کبیرہ	فارسی زبان کا آسان قاعدہ
		پیشگی گوہر	تاریخ اسلام



# مكتبة الشيخ المطبوع

تعريب علم الصيغة (مجلد)  
نور الإيضاح (مجلد)

## ملونة مجلدة

(٧ مجلدات)	الصحیح لمسلم
(مجلدين)	الموطأ للإمام محمد
(٨ مجلدات)	الهداية
(٤ مجلدات)	مشكاة المصابيح
(مجلد)	التيبان في علوم القرآن
(مجلد)	تفسير البصاوي
(مجلد)	شرح العقائد
(مجلد)	تيسر مصطلح الحديث
(٣ مجلدات)	تفسير الحلالين
(مجلد)	المسند للإمام الأعظم
(مجلدين)	مختصر المعاني
(مجلد)	الحمامي
(مجلد)	الهدية السعيدية
(مجلدين)	نور الأنوار (مجلدين)
(مجلد)	القطبي
(٣ مجلدات)	كبر الدقائق (٣ مجلدات)
(مجلد)	أصول التناهي
(مجلد)	شفحة العرب
(مجلد)	شرح التهذيب
(مجلد)	مختصر القدوري

## ملونة كرتون مقوي

السراحي	شرح عقود رسم المصنعي
الفوز الكبير	متن العقيدة الطحاوية
تلخيص المفتاح	هداية النحو <small>بالفصحى والعموم</small>
دروس البلاغة	زاد الطالبين
الكافية	عوامل النحو (النحو)
تعليم المتعلم	هداية النحو
مبادئ الأصول	إيساعوجي
المرفقات	شرح مائة عامل

متن الكافي مع مختصر الشافي  
خير الأصول في حديث الرسول

ستطع قريباً بعون الله تعالى

## ملونة مجلدة / كرتون مقوي

الجامع للترمذي	الموطأ للإمام مالك
ديوان المتنبي	ديوان الحماسة
المعلقات السبع	التوضيح والتلويح
المقامات الحبرية	شرح الحمامي

### Book in English

Tafsir-e-Urthmani (Vol 1, 2, 3)  
Lisaa-ul-Quran (Vol 1, 2, 3)  
Key Lisaa-ul-Quran (Vol 1, 2, 3)  
Al-Hizbul Azam (Large) (H Binding)  
Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover)  
Secret of Salah

### Other Languages

Fayad Us Salheen (Spanish) (H Binding)  
Fazal-e-Aamal (German)

To be published Shortly Insha Allah  
Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)